

2Jn

Chapter 1

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

- 1 Ὁ πρεσβύτερος, ἐκλεκτῆ κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὐς ἐγὼ
کا- بزرگ، چنیدہ خاتون اور کے- فرزندوں، اُس-کے، جنہیں میں
G3588 G4245 G1588 G2959 G2532 G3588 G5043 G0846 G3739 G1473
- ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ
محبت-کرتا-ہوں میں میں، اور نہیں میں، صرف، بلکہ بھی سب کے-
G0025 G1722 G0225 G2532 G3756 G1473 G3441 G0235 G2532 G3956 G3588
- ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν --
جاننے-والے کی- سچائی--
G1097 G3588 G0225

بلکہ میں صرف نہ اور ہوں، کرتا پیار سے سچائی میں جنہیں ہوں رہا لکھ کو بچوں کے اُس اور خاتون چنیدہ میں ہے۔ سے طرف کی یوحنا بزرگ خط یہ ہیں۔ جانتے کو سچائی جو سب

- 2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ' ἡμῶν ἔσται
کے-ذریعے کی- سچائی رہنے-والی میں ہم، اور کے-ساتھ ہمارے ہو-گی
G1223 G3588 G0225 G3588 G3306 G1722 G1473 G2532 G3326 G1473 G1510
- εἰς τὸν αἰῶνα:
تک کے- ابد:
G1519 G3588 G0165

گی۔ رہے ساتھ ہمارے تک ابد اور بے رہتی میں ہم سچائی کیونکہ

- 3 ἔσται μεθ' ἡμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ Πατρός, καὶ παρὰ
ہو-گی کے-ساتھ ہمارے، فضل، رحم، سلامتی سے- خدا باپ، اور سے-
G1510 G3326 G1473 G5485 G1656 G1515 G3844 G2316 G3962 G2532 G3844
- Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.
یسوع مسیح، کے- بیٹے کے- باپ، میں سچائی اور محبت۔
G2424 G5547 G3588 G5207 G3588 G3962 G1722 G0225 G2532 G0026

ہوں۔ حاصل ہمیں میں روح کی محبت اور سچائی چیزیں یہ اور کرے۔ عطا سلامتی اور رحم فضل، ہمیں مسیح عیسیٰ فرزند کا باپ اور باپ خدا

- 4 Ἐχάρην λίαν ὅτι εὐρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν
خوش-ہوا بہت کہ پایا-ہے سے- کے- فرزندوں تیرے چلتے-ہوئے میں
G5463 G3029 G3754 G2147 G1537 G3588 G5043 G4771 G4043 G1722
- ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ Πατρός.
سچائی، جیسے حکم پایا سے- کے- باپ۔
G0225 G2531 G1785 G2983 G3844 G3588 G3962

تھا۔ دیا حکم ہمیں نے باپ خدا طرح جس ہیں چلتے میں سچائی طرح اسی جو پائے ایسے بعض سے میں بچوں کے آپ نے میں کہ ہوا خوش ہی نہایت میں

- 5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν «γράφων σοι»
اور اب درخواست-کرتا-ہوں تجھ، خاتون، نہیں جیسے حکم لکھتا-ہوں تجھے
G2532 G3568 G2065 G4771 G2959 G3756 G5613 G1785 G1125 G4771
- καινήν, ἀλλὰ ἦν εἶχομεν ἀπ' ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.
نیا، بلکہ جو رکھتے-تھے سے- ابتدا، تاکہ محبت-کریں۔ ایک-دوسرے-سے۔
G2537 G0235 G3739 G2192 G0575 G0746 G2443 G0025 G0240

رہا لکھ کو آپ میں جو ہے نہیں حکم نیا کوئی یہ رکھیں۔ محبت سے دوسرے ایک سب ہم آئیں، کہ ہوں کرتا درخواست سے آپ میں خاتون، عزیز اب اور ہے۔ ملا سے ہی شروع ہمیں جو وہی بلکہ ہوں

6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ.
 اور یہ ہے کی- محبت، تاکہ چلیں تاکہ- کے- مطابق احکام اُس- کے۔
[G2532](#) [G3778](#) [G1510](#) [G3588](#) [G0026](#) [G2443](#) [G4043](#) [G2596](#) [G3588](#) [G1785](#) [G0846](#)

αὕτη ἡ ἐντολή ἐστὶν καθὼς, ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ
 یہ کا- حکم ہے جسے، سنا سے- ابتدا، تاکہ میں اِس
[G3778](#) [G3588](#) [G1785](#) [G1510](#) [G2531](#) [G0191](#) [G0575](#) [G0746](#) [G2443](#) [G1722](#) [G0846](#)

περιπατῆτε.
 چلو۔
[G4043](#)

میں روح کی محبت آپ کہ ہے یہ حکم کا اُس ہے، سنا سے ہی شروع نے آپ طرح جس گزاریں۔ زندگی مطابق کے احکام کے اُس ہم کہ ہے یہ مطلب کا محبت چلیں۔

7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες
 کیونکہ بہت دھوکے- باز نکلے میں- کے- دنیا، کے- نہ اقرار- کرنے- والے
[G3754](#) [G4183](#) [G4108](#) [G1831](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2889](#) [G3588](#) [G3361](#) [G3670](#)

Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ
 یسوع مسیح آنے- والا میں جسم- یہ ہے کا- دھوکے- باز اور کا-
[G2424](#) [G5547](#) [G2064](#) [G1722](#) [G4561](#) [G3778](#) [G1510](#) [G3588](#) [G4108](#) [G2532](#) [G3588](#)

ἀντίχριστος.
 دجال۔
[G0500](#)

عیسیٰ کہ مانتے نہیں لوگ یہ ہیں۔ رہتے لگے میں کوشش کی بٹانے سے راہ صحیح کو آپ جو ہیں بوئے کھڑے نکل میں دنیا لوگ ایسے سے بہت کیونکہ ہے۔ مسیح مخالف اور والا دینے فریب شخص ایسا ہر ہے۔ آیا کر ہو مجسم مسیح

8 βλέπετε ἑαυτοὺς, ἵνα μὴ ἀπολέσητε τὸ εἶργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη
 دیکھو اپنے- آپ- کو، تاکہ نہ کھوؤ جو کام- کیا- ہے، بلکہ اجر پورا
[G0991](#) [G1438](#) [G2443](#) [G3361](#) [G0622](#) [G3739](#) [G2038](#) [G0235](#) [G3408](#) [G4134](#)

ἀπολάβετε.
 پاؤ۔
[G0618](#)

جائے۔ مل اجر پورا کا اِس کو آپ کہ کرے خدا بلکہ رہے جاتا وہ ہے کیا حاصل کے کر محنت کچھ جو نے آپ کہ ہو نہ ایسا رہیں۔ خبردار چنانچہ

9 πᾶς ὁ προάγων, καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, Θεὸν
 ہر کا- آگے- نکلنے- والا، اور نہ رہنے- والا میں کے- تعلیم کے- مسیح، خدا- کو
[G3956](#) [G3588](#) [G4254](#) [G2532](#) [G3361](#) [G3306](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1322](#) [G3588](#) [G5547](#) [G2316](#)

οὐκ ἔχει. ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν
 نہیں رکھتا۔ کا- رہنے- والا میں کے- تعلیم، یہ بھی ہے- کو باپ اور کو-
[G3756](#) [G2192](#) [G3588](#) [G3306](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1322](#) [G3778](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3962](#) [G2532](#) [G3588](#)

Υἷον ἔχει.
 بیٹے رکھتا۔
[G5207](#) [G2192](#)

بھی باپ پاس کے اُس ہے رہتا قائم پر تعلیم کی مسیح جو نہیں۔ اللہ پاس کے اُس ہے جاتا نکل آگے سے اِس بلکہ رہتا نہیں قائم پر تعلیم کی مسیح بھی جو بھی۔ فرزند اور ہے

10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ
 اگر کوئی آئے -کے-نزدیک تم، اور یہ -کی-تعلیم نہ لاتا، نہ
[G1487](#) [G5100](#) [G2064](#) [G4314](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3778](#) [G3588](#) [G1322](#) [G3756](#) [G5342](#) [G3361](#)

λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε;
 قبول-کرو اسے -میں-گھر، اور سلام اسے نہ کہو؛
[G2983](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3614](#) [G2532](#) [G5463](#) [G0846](#) [G3361](#) [G3004](#)

کریں۔ سلام کو اُس نہ دیں، آنے میں گھروں اپنے اُسے نہ تو کرتا نہیں پیش تعلیم یہ کر آ پاس کے آپ کوئی اگر چنانچہ

11 ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.
 -کا کہنے-والا کیونکہ اُسے سلام شریک-ہوتا-ہے -کے- کاموں کے اُس-کے -کے- برے۔
[G3588](#) [G3004](#) [G1063](#) [G0846](#) [G5463](#) [G2841](#) [G3588](#) [G2041](#) [G0846](#) [G3588](#) [G4190](#)

ہے۔ جاتا ہو شریک میں کاموں شریک کے اُس وہ ہے کرتا دعا کی سلامتی لئے کے اُس جو کیونکہ

12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἐβουλήθη διὰ χάρτου καὶ μέλανος;
 بہت رکھتے-ہوئے تمہیں لکھنے-کو، نہیں چاہا -کے-ذریعے کاغذ اور سیاہی؛
[G4183](#) [G2192](#) [G4771](#) [G1125](#) [G3756](#) [G1014](#) [G1223](#) [G5489](#) [G2532](#) [G3188](#)

ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσαι, ἵνα
 امید-رکھتا-ہوں -آئے-کو -کے-نزدیک تم، اور زبانی سے -سے- زبانی بات-کرنے، تاکہ
[G0235](#) [G1679](#) [G1096](#) [G4314](#) [G4771](#) [G2532](#) [G4750](#) [G4314](#) [G4750](#) [G2980](#) [G2443](#)

ἢ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη ἦ.
 -کی-خوشی ہماری کامل ہو۔
[G3588](#) [G5479](#) [G1473](#) [G4137](#) [G1510](#)

ہوں۔ رکھتا امید کی کرنے بات زُوبرُو کے آپ اور ملنے سے آپ میں بجائے کے اس نہیں۔ ذریعے کے سیاہی اور کاغذ لیکن ہوں، چاہتا بتانا کچھ بہت کو آپ میں
 گی۔ جائے ہو مکمل خوشی ہماری پھر

13 Ἀσπάζεται σε, τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. <Ἀμήν>
 سلام-کہتے-ہیں تجھے، -کے-فرزند -کی-بہن تیری -کی-چنیدہ۔ آمین۔
[G0782](#) [G4771](#) [G3588](#) [G5043](#) [G3588](#) [G0079](#) [G4771](#) [G3588](#) [G1588](#) [G0281](#)

ہیں۔ کہتے سلام کو آپ بچے کے بہن چنیدہ کی آپ